

(امیدوار خود پر کرے)

Roll No.

HSSC (12th) 2nd Annual 2022

Banking

Paper : II

Time : 20 Minutes

Marks : 15

معمودی Objective

پہچہ II :

وقت 20 : منٹ

نمبر 15 :

نوٹ:-

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ اپنی جوابی کاٹی ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پلٹن سے بھر دیجئے۔
ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا لاکٹ کرنے کی صورت میں نہ گورہ۔ جواب غلط تصور ہو گا۔

Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A حصہ اول

Q.1	سوالات Questions/	A	B	C	D
1.	Which bank was formed under the Royal Order? ان میں سے کونسا بینک شاہی فرمان کے تحت قائم ہوا؟	Bank of Venice بنک آف وینس	State Bank of Pakistan سٹیٹ بینک آف پاکستان	Bank of Barcelona بنک آف بارسلونا	Chartered Bank of England چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ
2.	The primary objective of a central bank is to be: مرکزی بینک قائم کرنے کا اولین مقصد ہے۔	Earn profit نفع کمایا	Advance loan to traders تاجروں کو قرضے فراہم کرنا	Safeguard the national interest قومی مفاد کی بھراپی کرنا	All of these یہ تمام
3.	Crossing cheques can be cancelled by: چیک کی کراس کاری منسوخ کر سکتا ہے۔	Drawer مرتب کنندہ	Drawee مرتب الیہ	Holder فائلش	No one کوئی نہیں
4.	Document I.O.U is: دستاویز آئی۔ او۔ یو۔ ہے۔	Conditional negotiable مشروط قابل انتقال	Unconditional negotiable غیر مشروط قابل انتقال	Negotiable قابل انتقال	Non-negotiable نا قابل انتقال
5.	Another name of bank statement is: بنک اسٹیٹمنٹ کا دوسرا نام ہے۔	Pass book پاس بک	Cheque book چیک بک	Cash book کیش بک	Pay in slip پے ان سلپ
6.	The primary objective of commercial bank is to: جھارتی بینک کا بنیادی کام ہے۔	Earn profit نفع کمایا	Help the Government حکومت کی مدد کرنا	Help the poor غریبوں کی مدد کرنا	Issue the Note نوٹ جاری کرنا
7.	Refund of demanded loans is done: مطالباتی قرضوں کی واپسی کی جاتی ہے۔	After six month چھ ماہ بعد	On demand عند الطلب	On fixed period مقررہ مدت پر	After three month تین ماہ بعد
8.	What is necessary to withdraw money through A.T.M? اسے۔ ٹی۔ ایم۔ سے رقم نکالنے کے لئے کس کا استعمال ضروری ہے؟	I.D Card شناختی کارڈ	Cheque چیک	Pin code پن کوڈ	None of these ان میں سے کوئی نہیں
9.	The account on which bank does not pay profit is: جس اکاؤنٹ پر بینک فائدہ نہیں کرتا وہ ہے۔	Fixed account معمودی اکاؤنٹ	Current account جھارتی اکاؤنٹ	Saving account پخت اکاؤنٹ	Foreign currency account غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ
10.	Parties to a Bill of exchange are: بھڑی کے فریقین ہیں۔	2	3	4	5
11.	For which purposes bank grant loans to businessmen? بانک کاروباری حضرات کو کس مقاصد کے لئے قرضہ جاری کرتا ہے؟	To purchase raw material خام مال خریدنے کے لئے	To pay wages مزدوروں کو اجرت دینے کے لئے	To pay development expenditure ترقیاتی اخراجات ادا کرنے کے لئے	All of these یہ تمام
12.	Which of the given is highly moveable security? ان میں سے کونسی ضمانت زیادہ قابل فروخت ہے؟	Document of title to goods دستاویز منقولہ مال	Share and debenture حصص اور شراکت	Immoveable property غیر منقولہ جائیداد	All of these یہ تمام
13.	Credit money in the country is controlled by: ملک میں زراعت کو کنٹرول کرتا ہے۔	Central bank مرکزی بینک	Commercial bank جھارتی بینک	Industrial bank صنعتی بینک	Agricultural bank زراعتی بینک
14.	For what purpose central bank frames monetary policy? کس مقصد کے لئے مرکزی بینک زر پارسی بناتا ہے؟	Control banking system نظام بھاری کو کنٹرول کرنا	Control supply of money زر کی رسد کو کنٹرول کرنا	Control foreign exchange زر مبادار کو کنٹرول کرنا	Control stock market کنٹرول اسٹاک مارکیٹ
15.	Which method is mostly used in making foreign payment? بیرون ملک ادائیگی کے لئے کونسا طریقہ بہت استعمال ہوتا ہے؟	Foreign bill of exchange غیر ملکی بھڑی	By post بذریعہ ڈاک	By telegraph بذریعہ ٹیلی گراف	None of these ان میں سے کوئی نہیں

325-422-2A-60

CANCELLED